

ROOTWORDS OF SURAH NAAZIAAT 1-46

النَّزِعَاتِ	عَرَفًا	النَّشِطَاتِ	السَّابِحَاتِ	فَالْمُدْبِرَاتِ
ن ز ع	غ ر ق	ن ش ط	س ب ح	د ب ر
کھینچ کر نکالنے والیاں	دوب کر	آسانی سے نکالنے والیاں	تیرنے والیاں	پھر تدبیر کرنے والیاں
تَرْجُفٌ	الرَّاجِفَةُ	تَتَّبِعُهَا	الرَّادِفَةُ	وَاجِفَةٌ
ر ج ف	ر ج ف	ت ب ع	ر د ف	و ج ف
کانپنے گی	کانپنے والی	پیچھے آئے گی اس کے	پیچھے آنے والی	دھڑک رہے ہوں گے
الْحَافِرَةِ	نَخْرَةً	كِرَّةً	خَاسِرَةً	زَجْرَةً
ح ف ر	ن خ ر	ک ر ر	خ س ر	ز ج ر
پہلی حالت	بھر بھری / کھوکھلی	واپسی / لوٹنا	خسارہ	ڈانٹ ہوگی
بِالسَّاهِرَةِ	نَكَالَ	سَمَكَهَا	أَعْطَشَ	دَحَاهَا
س ہ ر	ن ک ل	س م ک	غ ط ش	د ح و/ی
میدان میں ہوں گے	عذاب	چھپت اسکی	ڈھانپ دیا اس نے	پھیلا دیا اس نے
مَرَعَلَهَا	أَرْسَلَهَا	الطَّامَّةُ	بُرْزَتْ	مُرْسَلَهَا
ر ع ی	ر س و	ط م م	ب ر ز	ر س و
چارا	گاڑھ دیا ان کو	آفت	ظاہر کر دی جائے گی	دفع ہوگا اس کا
	يَلْبَثُوا	عَشِيَّةً	ضَحَاهَا	
	ل ب ث	ع ش و	ض ح و	
	وہ ٹہرے تھے	ایک شام	ایک صبح اس کی	